

وَإِذْ قُلْتُمْ	يُمُوسَىٰ	لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ	حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ	جَهْرَةً
اور جب تم نے کہا:	اے موسیٰ!	ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر	جب تک کہ نہ ہم دیکھ لیں اللہ کو	لہلہا کھلا،
فَأَخَذْتُمْ	الصَّعِقَةَ	وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿55﴾	ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ	مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
پھر پکڑ لیا تمہیں	بجلی کی کڑک نے،	اور تم دیکھ رہے تھے۔	پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں	تمہاری موت کے بعد،
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿56﴾	وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ	الْغَمَامَ	وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ	الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰیٰ ط
تاکہ تم شکر گزار بنو۔	اور ہم نے سایہ کیا تم پر	بادل کا،	اور ہم نے اتارا تم پر	من اور سلویٰ،
كُلُوا	مِنْ طَيِّبَاتِ	مَا رَزَقْنَاكُمْ ط	وَمَا ظَلَمُونَا	
تم کھاؤ	پاکیزہ چیزوں سے	جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں،	اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر	
وَلَكِن	كَانُوا	أَنْفُسَهُمْ	يَظْلِمُونَ ﴿57﴾	
اور لیکن	وہ تھے	اپنی جانوں پر	ظلم کرتے۔	

مختصر شرح

- ﴿ نَرَى اللَّهَ... ﴾: بنی اسرائیل کا مطالبہ: ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔
- ﴿ جَهْرَةً... ﴾: کھلم کھلا یعنی اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر دیکھیں، ایسا نہیں کہ خواب میں دیکھ لیں۔
- ﴿ فَأَخَذْتُمْ الصَّعِقَةَ... ﴾: اللہ تعالیٰ نے انہیں بجلی کی کڑک کے ذریعہ عذاب دیا اور وہ سب مر گئے۔
- ﴿ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ... ﴾: تم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتے دیکھا۔ گویا یہ ایک سخت سزا تھی۔
- ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ... ﴾: پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔
- ﴿ وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ... ﴾: ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے ان پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بھیجے اور ان کے لیے من اور سلویٰ کا انتظام کیا۔
- ﴿ كُلُوا... ﴾: جو کچھ پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔
- ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا... ﴾: بنی اسرائیل نے کھلی نشانیاں، بڑے بڑے معجزات اور غیر معمولی واقعات دیکھنے کے باوجود بغاوت کی اور کفر کیا۔ ان کی ان سب حرکتوں کا نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ خود ان ہی کو ہوا۔
- ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا... ﴾: اب تک اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے گفتگو کر رہا تھا، اب یہاں پر اللہ نے انداز بدلتے ہوئے کہا: انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، گویا اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ رب العزت فرماتا ہے: ”اے میرے بندو! اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے، اور انسان اور جنات اُس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے تب بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور سب اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور جنات اُس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ بدکار ہے تب بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ (مسلم: 2577)

اسباق، دعا اور پلان

ان آیات سے کئی اسباق، دعائیں اور پلان بنائے جاسکتے ہیں۔ نیچے بطور مثال صرف چند کا ذکر ہے۔

- ◀ کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔
- ◀ اللہ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دی پھر کرم فرما کر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں۔
- ◀ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائے کا اور خوراک کا انتظام کیا۔
- ◀ اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل خود پر ظلم کرتے رہے۔

دعا: اے اللہ! ہمیں جنت میں داخلہ اور تیرا دیدار نصیب فرما۔

پلان: ان شاء اللہ! میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق بڑھتا رہے۔

اسماء اور افعال

اس سبق کی آیات میں آنے والے کچھ اسماء اور افعال نیچے دیے گئے ہیں۔

افعال: نیچے دیے گئے افعال کی TPI کے ساتھ مشق کیجیے								
تکرار	مادہ اور کوڈ	فعل ماضی	فعل مضارع	فعل امر	اسم فاعل	اسم مفعول	کام کا نام	معانی
95	ن ظ ر ذ	نَظَرَ	يَنْظُرُ	اُنْظُرْ	نَاظِرٌ	مَنْظُورٌ	نَظَرٌ	دیکھنا
65	ب ع ث ف	بَعَثَ	يَبْعَثُ	اِبْعَثْ	بَاعِثٌ	مَبْعُوثٌ	بَعَثٌ	بھیجنا
63	ش ك ر ذ	شَكَرَ	يَشْكُرُ	اَشْكُرْ	شَاكِرٌ	مَشْكُورٌ	شُكْرٌ	شکر کرنا
122	ر ز ق ذ	رَزَقَ	يَرْزُقُ	ارْزُقْ	رَازِقٌ	مَرْزُوقٌ	رِزْقٌ	رزق دینا
266	ظ ل م ض	ظَلَمَ	يَظْلِمُ	اِظْلِمْ	ظَالِمٌ	مَظْلُومٌ	ظَلَمٌ	ظلم کرنا
171 5	ق و ل قا	قَالَ	يَقُولُ	قُلْ	قَابِلٌ	مَقُولٌ	قَوْلٌ	کہنا
273	ر ع ي ف	رَأَى	يَرَى	رَ	رَاءٍ	مَرِيٍّ	رَأْيٌ	دیکھنا
142	أ خ ذ ذ	أَخَذَ	يَأْخُذُ	خُذْ	آخِذٌ	مَأْخُوذٌ	أَخَذٌ	لینا
818	أ م ن أ س د	أَمَنَ	يُؤْمِنُ	اِمْنٌ	مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنٌ	إِيْمَانٌ	ایمان لانا
2	ظ ل ل ع ل ا	ظَلَّلَ	يُظِلِّلُ	ظَلِّلْ	مُظَلِّلٌ	مُظَلِّلٌ	تَظْلِيلٌ	سایہ کرنا
190	ن ز ل أ س د	أَنْزَلَ	يُنْزِلُ	أَنْزِلْ	مُنْزِلٌ	مُنْزِلٌ	إِنْزَالٌ	نازل کرنا

اسماء		
واحد	جمع	معانی
صَاعِقَةٌ	صَوَاعِقُ	بجلی کی کڑک
طَيْبَةٌ	طَيِّبَاتٌ	پاکیزہ چیز